



## JUZ 10 – PART 2

### SURAH AT-TAWBAH 34-93 ROOT WORDS

Translation	ROOT WORD	WORD	AYAT
جمع کرتے ہیں	ک ن ز	يَكْنُزُونَ	34
چاندی	ف ض ض	الْفِضَّةَ	
تپایا جائے گا	ح م ی	يُحْمَى	35
پھر داغی جائیں گی	ک و ی	فَتُكْوَى	
پیشانیاں ان کی	ج ب ہ	جِبَاهُهُمْ	
درست	ق و م	الْقِيمَ	36
مہینوں کو آگے پیچھے کرنا	ن س أ	النَّسِيءُ	37
تاکہ وہ درست کر لیں	و ط أ	لِيُؤَاطِنُوا	
درمیانہ	ق ص د	قَاصِدًا	42
مسافت	ش ق ق	الشَّقَّةَ	
اجازت مانگتے آپ سے	أ ذ ن	يَسْتَأْذِنُكَ	44
اور شک کرتے ہیں	ر ی ب	وَأَرْتَابَتْ	45
وہ متردد / حیران ہیں	ر د د	يَتَرَدَّدُونَ	
اٹھنا اسکا	ب ع ث	انْبَعَاثَهُمْ	46
تو اس نے روک دیا انہیں	ث ب ط	فَنَبَّطَهُمْ	
سست ہوتے ہیں	ک س ل	كُسَالَى	54
تعجب میں ڈالیں آپ کو	ع ج ب	نُعْجِبُكَ	55
نکلیں	ز ہ ق	تَرْهَقَ	
وہ قسمیں کھاتے ہیں	ح ل ف	يَحْلِفُونَ	56
کوئی جائے پناہ	ل ج أ	مَلْجَأً	57

کوئی غار	غ و ر	مَغَارَاتٍ	
وہ سرپٹ دوڑتے ہیں	ج م ح	يَجْمَحُونَ	
الزام لگاتے ہیں آپ پر	ل م ز	يَلْمِزُكَ	58
وہ ناراض ہو جاتے ہیں	س خ ط	يَسْخَطُونَ	
عنقریب دے گا ہمیں	أ ت ي	سَيُوتِينَا	59
اور الفت دلائے گئے	أ ل ف	وَالْمُؤَلَّفَةِ	60
اور قرض داروں (کے لیے)	غ ر م	وَالْغَارِمِينَ	
مخالفت کرتا ہے	ح د د	يُحَادِدِ	63
ہم معاف کر دیں	ع ف و	نَعْفُ	66
وہ بند رکھتے ہیں	ق ب ض	يَقْبِضُونَ	67
پس تم نے فائدہ اٹھایا	م ت ع	فَاسْتَمْتَعْتُمْ	69
اپنے حصے سے	خ ل ق	بِخَلْقِهِمْ	
بحث کی تم نے	خ و ض	خُضْتُمْ	
انہوں نے بحث کی	خ و ض	خَاضُوا	
الٹی ہوئی بستیوں والے	أ ف ك	الْمُؤْتَفِكَاتِ	70
اور سختی کیجیے	غ ل ظ	وَاعْظُوا	73
وہ طعنہ دیتے ہیں	ل م ز	يَلْمِزُونَ	79
خوشی سے دینے والوں کو	ط و ع	الْمُطَوِّعِينَ	
وہ مذاق اڑاتے ہیں	س خ ر	فَيَسْخَرُونَ	
خوش ہو گئے	ف ر ح	فَرِحَ	81
پس چاہیے کہ وہ ہنسیں	ض ح ك	فَلْيَضْحَكُوا	82
اور چاہیے کہ وہ روئیں	ب ك ي	وَأَلْبِكُوا	
آپ نماز پڑھیے	ص ل و	تُصَلِّ	84
چھوڑ دیجیے ہمیں	و ذ ر	ذَرْنَا	86
ساتھ بیچھے رہنے والیوں کے	خ ل ف	الْخَوَالِفِ	87

عذر کرنے والے	ع ذ ر	الْمُعْذِرُونَ	90
عنقریب پہنچے گا	ص و ب	سَيُصِيبُ	
ضعیفوں پر	ض ع ف	الضُّعْفَاءِ	91
وہ خیر خواہی کریں	ن ص ح	نَصَحُوا	
تاکہ آپ سوار کریں انہیں	ح م ل	لِتَحْمِلَهُمْ	92
بہہ رہی تھیں	ف ی ض	تَفِيضٌ	
آنسوؤں سے	د م ع	الدَّمْعِ	
مہر لگا دی	ط ب ع	طَبَعَ	93